



بنی آدم میں سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کی ولادت کے وقت اسے کچوکے لگاتا ہے اور وہ شیطان کے کچوکے سے چبھ کر رو دیتا ہے البتہ مریم اور ان کا بیٹا دونوں اس سے مستثنیٰ ہیں

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے: "بنی آدم میں سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کی ولادت کے وقت اسے کچوکے لگاتا ہے اور وہ شیطان کے کچوکے سے چبھ کر رو دیتا ہے البتہ مریم اور ان کا بیٹا دونوں اس سے مستثنیٰ ہیں" پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے: {وَإِنِّي أُعِيدُهَا بَكَ وَدُرَّتْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} یعنی میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔
[صحیح] [متفق علیہ]

جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کے پلو میں کچوکے لگاتا ہے اور بچہ چبھ کر رو دیتا ہے ولادت کے ٹھیک بعد بچہ کے رونے کا سبب شیطان کا یہی کچوکا ہے جو وہ اسے لگاتا ہے لیکن مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہما السلام اس سے مستثنیٰ ہیں اللہ نے دونوں کو ولادت کے وقت شیطان کے کچوکے سے محفوظ رکھا کیونکہ مریم کی ماں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی: {وَإِنِّي أُعِيدُهَا بَكَ وَدُرَّتْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں) چنانچہ اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے، رحمت الہی سے دور کئے ہوئے شیطان کے کچوکے سے، مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہما السلام کو محفوظ رکھا قابل ذکر بات یہ ہے کہ شیطان کا یہ چھونا یا کچوکا لگانا حقیقی معنی پر محمول ہے اس کے معنی شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کی لالچ کرنا نہیں ہے، جیسا کہ بعض معتزلہ کا دعویٰ ہے صاف ستھری بات ہے کہ اس پر اس کے حقیقی معنوں کے مطابق ہی ایمان رکھنا ضروری ہے ہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10994>